



سوال

(313) دو خطبوں کے دوران ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

بعض دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں میں نے مشکوٰۃ شریف میں پڑھا کہ حضور اس مقام میں صرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ یا کوئی زبانی دعا بغیر ہاتھ اٹھانے مانگ سکتے ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا تو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ (مسلم۔ الحجۃ۔ باب تخفیف الصلاة والنخبة) البتہ اس جلوس بین النخبتین میں خطیب یا سامعین کا ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھانے بغیر دعا کرنا کسی آیت یا حدیث میں نہیں آیا انگلی سے اشارہ بوقت خطاب ہے۔ (مسلم۔ الحجۃ۔ باب تخفیف الصلاة والنخبة۔ ابوداؤد۔ الحجۃ باب رفع الیدین علی المنبر) بوقت جلوس بین النخبتین نہیں۔ خطبہ کے دوران زبانی دعا رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے دعائے بارش کی بعض سامعین کی طرف سے درخواست پر دوران خطبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی آپ ﷺ سے ثابت ہے دیکھیں بخاری و مسلم کتاب الحجۃ کتاب الاستسقاء۔

ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

احکام و مسائل

نماز کا بیان ج 1 ص 243

محدث فتویٰ